



*Truthfulness
& Falsehood*

JANUARY 2023

The Holy Quran/ Truthfulness & Falsehood

Self-Study / Teaching Guide

Click on each reference below to learn more about this month's verses

An Nisa' 4:108

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(New\)](#) (Vol. 3 pg 338)

[امانت کو ادا کرنے اور خیانت سے بچنے کے لئے آنحضرت ﷺ کا اُسوہ لپنائیں، خطبہ جمعہ 6 فروری 2004ء](#)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 2 pg 699)

[Betrayal of trust/treachery](#) Friday Sermon 6 Feb 2004

An Nisa' 4:136

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(New\)](#) (Vol. 3 pg 347-348)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 2 pg 713-714)

Al Maidah 5:120

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(New\)](#) (Vol. 4 pg 120-121) (Note: Typo on page says vs 119)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 2 pg 138)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 2 pg 833-834)

At Taubah 9:119

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(New\)](#) (Vol. 4 pg 315-328)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 2 pg 313-315)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 2 pg 1203-1204)

Bani Isra'il 17:82

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(New\)](#) (Vol. 5 pg 152-154)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 2 pg 557)

[Tafseer-e-Kabeer](#) (Vol. 4 pg 377-378)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 3 pg 1809-1810)

Al Hajj 22:31

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(New\)](#) (Vol. 5 pg 372-374)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 3 pg 147)

[Tafseer-e-Kabeer](#) (Vol. 6 pg 38-43)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 4 pg 2149-2150)

Al Furqan 25:73

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(New\)](#) (Vol. 6 pg 189-190)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 3 pg 254)

[Tafseer-e-Kabeer](#) (Vol. 6 pg 580-590)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 4 pg 2332)

Al Ahzab 33:36

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(New\)](#) (Vol. 6 pg 340-341)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 3 pg 409-410)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 4 pg 2570-2571)

An Nisa' 4:108

وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ﴿١٠٨﴾

And plead not on behalf of those who are dishonest to themselves. Surely, Allah loves not one who is perfidious and a great sinner.

اور ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کر جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سخت خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔

وَ	لَا	تُجَادِلْ	عَنِ	الَّذِينَ	يَخْتَانُونَ	أَنْفُسَهُمْ	إِنَّ
and	not	you quarrel	for	those who	they are dishonest	themselves	surely
اللَّهُ	لَا	يُحِبُّ	مَنْ	كَانَ	خَوَانًا	أَثِيمًا	
Allah	not	he loves	who	he was	perfidious	great sinner	

وَأَلَا	تُجَادِلُ	عَنِ	الَّذِينَ	يَخْتَانُونَ	أَنْفُسَهُمْ	إِنَّ	اللَّهَ
اور نہیں	تو ان سے بحث کر	سے	وہ لوگ	وہ خیانت کرتے ہیں	ان کے نفس	یقیناً	اللہ
لَا يُحِبُّ	مَنْ	كَانَ	خَوَانًا	أَثِيمًا			
وہ پسند نہیں کرتا	جو	وہ ہے	خیانت کرنے والا	گناہگار			

An-Nisa' 4:136

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٦﴾

O ye who believe! be strict in observing justice, and be witnesses for Allah, even though it be against yourselves or against parents and kindred. Whether he be rich or poor, Allah is more regardful of them both than you are. Therefore follow not low desires so that you may be able to act equitably. And if you conceal the truth or evade it, then remember that Allah is well aware of what you do.

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ خواہ کوئی امیر ہو یا غریب دونوں کا اللہ ہی بہترین نگہبان ہے۔ پس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو مبادا عدل سے گریز کرو۔ اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تہی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے۔

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	كُونُوا	قَوِّمِينَ	بِالْقِسْطِ	شُهَدَاءَ		
O you	those	they believed	you be	those that stand firm	with justice	witnesses		
لِلَّهِ	وَ	لَوْ	عَلَىٰ	أَنْفُسِكُمْ	أَوِ	الْوَالِدِينَ	وَ	الْأَقْرَبِينَ
for Allah	and	if	against	yourselves	or	parents	and	the kindred
إِنَّ	يَكُنْ	غَنِيًّا	أَوْ	فَقِيرًا	فَاللَّهُ	أَوْلَىٰ	بِهِمَا	فَلَا
he be	if	rich	or	poor	so Allah	more regardful	with them both	so not
تَلَوَّا	أَوْ	تَعْرَضُوا	فَإِنَّ	اللَّهَ	كَانَ	بِمَا	تَعْمَلُونَ	خَبِيرًا
you conceal / distort	or	you evade	so surely	Allah	that	you do justice	that	

قَالَ	اللَّهُ	هَذَا	يَوْمٌ	يَنْفَعُ	الصَّادِقِينَ	صِدْقُهُمْ	لَهُمْ	جَنَّتْ	تَجْرِي
اس نے کہا	اللہ	یہ	دن	وہ فائدہ دیتا ہے	سچ بولنے والے	ان کا سچ	ان کے لئے	بانگات	وہ بہتی ہے
مِنْ	تَحْتِهَا	الْأَنْهَارِ	خُلْدِيْنَ	فِيهَا	أَبَدًا	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُمْ	وَ
سے	اس کے نیچے	نہریں	بہمشہ رہنے والے	اس میں	بہمشہ	وہ راضی ہو گیا	اللہ	ان سے	اور
رَضُوا	عَنْهُ	ذَلِكَ	الْعَظِيمِ	الْعَظِيمِ	الْعَظِيمِ	الْعَظِيمِ	الْعَظِيمِ	الْعَظِيمِ	الْعَظِيمِ
وہ راضی ہو گئے	اس سے	یہ	کامیابی	بڑی	کامیابی	بڑی	کامیابی	بڑی	کامیابی

At-Taubah 9:119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

O ye who believe! fear Allah and be with the truthful.

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	اتَّقُوا	اللَّهُ	وَ	كُونُوا	مَعَ	الصَّادِقِينَ
O you	those who	believe	fear	Allah	and	be	with	truthful

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	اتَّقُوا	اللَّهُ	وَ	كُونُوا	مَعَ	الصَّادِقِينَ
اے	وہ لوگ	وہ ایمان لائے	انہوں نے تقویٰ اختیار کیا	اللہ	اور	تم ہو جاؤ	ساتھ	سچ بولنے والے

Bani Isra'il 17:82

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨٢﴾

And say, 'Truth has come and falsehood has vanished away. Falsehood does indeed vanish away *fast*.'

اور کہہ دے حق آگیا اور باطل بھاگ گیا۔ یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔

و	قُلْ	جَاءَ	الْحَقُّ	وَ	زَهَقَ	الْبَاطِلُ	إِنَّ	الْبَاطِلَ	وَ
and	you say	has come	truth	and	vanished away	falsehood	indeed	falsehood	
									كَانَ
									does
									زَهَقَا
									vanish away

و	قُلْ	جَاءَ	الْحَقُّ	وَ	زَهَقَ	الْبَاطِلُ	إِنَّ	الْبَاطِلَ	كَانَ	زَهَقَا
اور	تو کہہ دے	وہ آیا	حق	اور	وہ بھاگ گیا	باطل	یقیناً	باطل	وہ ہے	بھاگ جانے والا

Al Hajj 22:31

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَاُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُثَلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣١﴾

That is *God's commandment*. And whoso honours the sacred things of Allah, it will be good for him with his Lord. And cattle are made lawful to you but not that which has been announced to you. Shun therefore the abomination of idols, and shun all words of untruth,

یہ (ہم نے حکم دیا)۔ اور جو بھی اُن چیزوں کی تعظیم کرے گا جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے تو یہ اس کے لئے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اور تمہارے لئے چوپائے حلال کر دیئے گئے سوائے ان کے جن کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے۔ پس بتوں کی پلیدی سے احتراز کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔

ذٰلِكَ	وَ	مَنْ	يُعْظِمِ	حُرْمَتِ	اللّٰهِ	فَ	هُوَ	خَيْرٌ	لّٰهُ	عِنْدَ
that is	and	whoso	honours	sacred things	Allah	so	it	good	for	with
رَبِّ	ۙ	وَ	اُحِلَّتْ	لَكُمْ	الْاَنْعَامُ	اِلَّا	مَا	يُثَلٰى	عَلَيْ	
Lord	his	and	made lawful	you	cattle	except	what	announced	to	
كُم	فَ	اَجْتَنِبُوا	الرِّجْسَ	مِنَ	الْاَوْثَانِ	وَ	اَجْتَنِبُوا	قَوْلَ	الزُّورِ	
you	so	you shun	abomination	of	idols	and	you shun	speech	false	

Surely, men who submit themselves to God and women who submit themselves to Him, and believing men and believing women, and obedient men and obedient women and truthful men and truthful women, and men steadfast in their faith and steadfast women, and men who are humble and women who are humble, and men who give alms and women who give alms, and men who fast and women who fast, and men who guard their chastity and women who guard their chastity, and men who remember Allah much and women who remember Him — Allah has prepared for all of them forgiveness and a great reward.

یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لئے مغفرت اور اجرِ عظیم تیار کئے ہوئے ہیں۔

وَ	الْمُؤْمِنِينَ	وَ	الْمُسْلِمَاتِ	وَ	الْمُسْلِمِينَ	إِنَّ		
and	believing men	and	women who submit	and	men who submit	surely		
وَ	الصّٰدِقِيْنَ	وَ	الْقٰنِتَاتِ	وَ	الْقٰنِتِيْنَ	وَ	الْمُؤْمِنَاتِ	
and	truthful men	and	obedient women	and	obedient men	and	believing women	
وَ	الْحٰشِعِيْنَ	وَ	الصّٰبِرَاتِ	وَ	الصّٰبِرِيْنَ	وَ	الصّٰدِقَاتِ	
and	humble men	and	steadfast women	and	steadfast men	and	truthful women	
الضّٰئِبِيْنَ	وَ	الْمُتَصَدِّقَاتِ	وَ	الْمُتَصَدِّقِيْنَ	وَ	الْحٰشِعَاتِ		
men who fast	and	women who give alms	and	men who give alms	and	humble women		
الْحٰفِظَاتِ	وَ	هُنَّ	فُرُوجَهُنَّ	الْحٰفِظِيْنَ	وَ	الصّٰبِرَاتِ	وَ	
women who guard	and	their	private parts	men who guard	and	women who fast	and	
لِ	اللّٰهِ	أَعَدَّ	الذِّكْرَاتِ	وَ	كَثِيْرًا	اللّٰهُ	الذِّكْرٰيْنَ	وَ
for	Allah	prepared	women who remember	and	much	Allah	men who remember	and
				عَظِيْمًا	أَجْرًا	وَ	مَغْفِرَةً	هُنَّ
				great	reward	and	forgiveness	them

إِنَّ	الْمُسْلِمِينَ	وَالْمُسْلِمَاتِ	وَالْمُؤْمِنِينَ	وَالْمُؤْمِنَاتِ	وَالْقَنَاتِ	وَالْقَنَاتِ	وَالْقَنَاتِ
یقیناً	مسلمان مرد	مسلمان عورتیں	مومن مرد	مومن عورتیں	فرمانبردار مرد	فرمانبردار عورتیں	فرمانبردار عورتیں
الْقَنَاتِ	وَالصَّادِقِينَ	وَالصَّادِقَاتِ	وَالصَّابِرِينَ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ
فرمانبردار عورتیں	سچے مرد	سچی عورتیں	صبر کرنے والے مرد	صبر کرنے والی عورتیں	صبر کرنے والے مرد	صبر کرنے والی عورتیں	صبر کرنے والی عورتیں
وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ
عاجزی کرنے والے مرد	عاجزی کرنے والی عورتیں	عاجزی کرنے والے مرد	عاجزی کرنے والی عورتیں	عاجزی کرنے والے مرد	عاجزی کرنے والی عورتیں	عاجزی کرنے والے مرد	عاجزی کرنے والی عورتیں
وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ
روزہ رکھنے والے مرد	روزہ رکھنے والی عورتیں	روزہ رکھنے والے مرد	روزہ رکھنے والی عورتیں	روزہ رکھنے والے مرد	روزہ رکھنے والی عورتیں	روزہ رکھنے والے مرد	روزہ رکھنے والی عورتیں
وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ
حفاظت کرنے والی عورتیں	حفاظت کرنے والے مرد	حفاظت کرنے والی عورتیں	حفاظت کرنے والے مرد	حفاظت کرنے والی عورتیں	حفاظت کرنے والے مرد	حفاظت کرنے والی عورتیں	حفاظت کرنے والے مرد
وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ
ان کی شرم گاہیں	ان کی شرم گاہیں	ان کی شرم گاہیں	ان کی شرم گاہیں	ان کی شرم گاہیں	ان کی شرم گاہیں	ان کی شرم گاہیں	ان کی شرم گاہیں
وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ
حفاظت کرنے والی عورتیں	حفاظت کرنے والے مرد	حفاظت کرنے والی عورتیں	حفاظت کرنے والے مرد	حفاظت کرنے والی عورتیں	حفاظت کرنے والے مرد	حفاظت کرنے والی عورتیں	حفاظت کرنے والے مرد
وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ
ان کے لئے	ان کے لئے	ان کے لئے	ان کے لئے	ان کے لئے	ان کے لئے	ان کے لئے	ان کے لئے
وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ
مغفرت	مغفرت	مغفرت	مغفرت	مغفرت	مغفرت	مغفرت	مغفرت
وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ
اجر	اجر	اجر	اجر	اجر	اجر	اجر	اجر
وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ	وَالصَّابِرَاتِ
بہت بڑا	بہت بڑا	بہت بڑا	بہت بڑا	بہت بڑا	بہت بڑا	بہت بڑا	بہت بڑا

Advanced Reading (Optional)

Commentary of Surah Al-Fatihah from Tafsir-ul-Kabir

سورة فاتحہ ، صفحہ 7

<https://www.alislam.org/quran/view/?page=7®ion=T1>

The Revelation of Sūrah al-Fātiḥah

<https://www.reviewofreligions.org/22386/the-revelation-of-surah-al-fati%e1%b8%a5ah/>

Tarteelul Quran / 5-minute Review

Keeping in mind the level of knowledge of members, please take **5 minutes in every class** to teach the rules of the **correct recitation** of the Holy Quran.

The following are resources that teachers/self-learners may find beneficial:

Qaidah Tarteelul Quran (Urdu) <https://www.alislam.org/urdu/pdf/Tarteel-ul-Quran.pdf>

Qaidah Tarteelul Quran (English) <https://www.alislam.org/quran/English-Qaida-Tarteel-ul-Quran.pdf>

Al-Tarteel – an English language MTA program teaching the correct pronunciation of the Holy Quran with Hafiz Fazle Rabbi (55 episodes) <https://www.alislam.org/media/program/al-tarteel/>

Note: Accompanying pdf of PPT for each episode available at alislam.org by searching “Al Tarteel Lesson [insert class number]”

Hadith for Class #1 / Truthfulness & Falsehood / جھوٹ اور سچ

۸۹۰ — عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَّعَاهَا: إِذَا أُؤْتِيَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (مسلم كتاب الايمان باب بيان خصال المنافق، نسائي)

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چار ایسی علامتیں ہیں کہ جس میں وہ ہوں وہ پکا منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہوگی سوائے اس کے کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ چار باتیں یہ ہیں :- جب اسے امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے معاہدہ کرے تو بے وفائی کرتا ہے اور جب کسی سے جھگڑ پڑے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔

Hazrat ‘Abdullah Bin ‘Amr Bin al-‘As^{ra} relates that the Holy Prophet^{sa} said, ‘Whoever has the following four characteristics is a real hypocrite, and whoever has one of these characteristics has an element of hypocrisy until he leaves that habit:

- When he speaks, he tells a lie. [His speech is mingled with falsehood, and he utters falsehood.]
- When he makes a contract, he breaks it.

- When he makes a promise, he breaks it. [This is also a form of faslehood.]
- When he argues, he starts using foul language.

Source: [Hadigatus Saliheen](#) pg 832 & [Conditions of Bai'at & Responsibilities of an Ahmadi](#) pg 23

جهوٹ اور سچ / Truthfulness & Falsehood / **Hadith for Class #2**

وجاء رجل إلى الرسول ﷺ واعترف له أنه يعاني من ثلاث رذائل: الكذب وشرب الخمر والزنا، وأنه قد حاول تركها ولكنه فشل في ذلك، وسأله علاجًا للمشكلة. فأوضح له الرسول ﷺ أنه لو ضمن له أن يدع واحدة منهن فهو يضمن له علاج البقية، فوعد الرجل بذلك وطلب منه ذكر الواحدة، فقال له ﷺ أن يدع الكذب. وبعد فترة من الزمن جاء الرجل للنبي ﷺ وصرح له أنه عوفي من الرذائل الثلاث لما اتبع نصيحته بأمانة. فطلب منه ﷺ أن يروي تفصيل ذلك. فقال الرجل: أردت أن أشرب الخمر يومًا، وعندما كدت أفعل تذكرت وعدي لك، ورأيت أنه لو أن أحدًا من صحبي سألني هل شربت، فإنني سأضطر إلى قول الحق وأعترف له أي فعلت، مما يعني أن أكتسب سمعة خبيثة بين أصحابي فيهجروني، فأقنعت نفسي بتأجيل الشراب إلى وقت آخر، ومع مرور الزمن صرت قادرًا على مقاومة الإغراء. وبنفس الطريقة حدث أن وجدت من نفسي ميلًا إلى الزنا، فحاججت نفسي بأن الاستمتاع بهذه الخطيئة سيعرضني لفقد احترام أصدقائي؛ إذ أنني إما أن أكذب عليهم فأخلف وعدي معك، أو أن أعترف بذنبي. وهكذا استمر الصراع بين إصراري على الوفاء بالوعد الذي قطعته لك، وبين رغبتني في متعة الشرب والزنا. وبمرور الوقت فقدت ميلي إلى هذه الخطايا، وأنقذني إصراري على الصدق والبعد عن الكذب من الخطيئتين الأخرين أيضًا.

ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! مجھ میں تین عیب ہیں۔ جھوٹ، شراب خوری اور زنا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ عیب کسی طرح مجھ سے دور ہو جائیں مگر میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ کوئی علاج بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک گناہ چھوڑنے کا تم مجھ سے وعدہ کرو۔ دو میں چھڑا دوں گا۔ اُس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں فرمائیے کون سا گناہ چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا اور اُس نے کہا آپ کی ہدایت پر میں نے عمل کیا اور میرے سارے ہی گناہ چھٹ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا گزری؟ اُس نے کہا میرے دل میں ایک دن شراب کا خیال آیا میں شراب پینے کے لیے اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر میرے دوست مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے شراب پی ہے تو پہلے میں جھوٹ بول دیا کرتا تھا اور کہہ دیا کرتا تھا کہ نہیں پی۔ مگر اب میں نے سچ بولنے کا اقرار کیا ہے اگر میں نے کہا کہ شراب پی ہے تو میرے دوست مجھ سے چھٹ جائیں گے اور اگر کہوں گا کہ نہیں پی تو جھوٹ کا ارتکاب کروں گا جس سے بچنے کا میں نے اقرار کیا ہے۔ چنانچہ میں نے دل میں کہا کہ اس وقت نہیں پیتے پھر پیئیں گے۔ اسی طرح میرے دل میں زنا کا خیال پیدا ہوا اور اس کے متعلق بھی میری اپنے دل سے یہی باتیں ہوتیں کہ اگر میرے دوست مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا۔ اگر یہ کہوں گا کہ میں نے زنا کیا ہے تو میرے دوست مجھ سے چھٹ جائیں گے اور اگر یہ کہوں گا کہ نہیں کیا تو جھوٹ بولوں گا۔ اور جھوٹ سے بچنے کا میں اقرار کر چکا ہوں۔ اسی طرح میرے اور میرے دل کے درمیان کئی دن تک یہ بحث و مباحثہ جاری رہا۔ آخر کچھ مدت تک ان دونوں عیبوں سے بچنے کی وجہ سے میرے دل سے ان کی رغبت بھی مٹ گئی اور سچ کے قبول کرنے کی وجہ سے باقی عیبوں سے بھی محفوظ ہو گیا۔

A man once came to the Holy Prophet^{sa} and said: "O Messenger of Allah^{sa}! I suffer from three evils: falsehood, indulgence in strong drinks and fornication. I have tried my utmost to get rid of them but have not succeeded. Will you tell me what to do? "

The Holy Prophet^{sa} replied: "If you make a firm promise to me to give up one of them I guarantee that you will be rid of the other two."

The man promised and asked the Holy Prophet^{sa} to tell him which of the three he should give up. The Holy Prophet^{sa} said: "Give up falsehood."

Some time later the man came back and told the Holy Prophet^{sa} that, having followed his advice, he was now free from all three vices. The Holy Prophet^{sa} asked him for the details of his struggle

and the man said: "One day I wanted to indulge in liquor and was about to do so when I bethought myself of my promise to you and realized that if any of my friends asked me whether I had taken liquor, I would have to admit it as I could no longer utter a falsehood. This would mean that I would acquire an evil reputation among my friends and they would in future avoid me. Thinking thus, I persuaded myself to postpone drinking to some later occasion and was able to withstand the temptation at the time. In the same way when I found myself inclined towards fornication I argued with myself that indulgence in the vice would expose me to the loss of the esteem of my friends as I would either have to tell a falsehood if questioned by them, thus breaking my promise to you, or I would have to admit my sin. In this way I continued to struggle between my resolve to fulfil my promise to you and my desire to indulge in liquor and in adultery. When some time had passed I began to lose the inclination to indulge in these vices and the resolve to keep away from falsehood has now saved me from the other two also."

Source: [Deebacha Tafseerul Quran](#) pg. 400-401 & [Life of Muhammad^{sa}](#) pg. 368-369

Prayer / Class #1 / Memorize the following prayer with translation

The Imam commences the funeral Prayer by saying *Allahu Akbar*, i.e. Allah is the Greatest, loudly. The followers say the same in a low tone. Everyone then recites *Thana'* and Surah Al-Fatihah silently. The Imam then says *Allahu Akbar* without raising his hand. The followers say *Allahu Akbar* too, but in a low tone. Then the whole congregation recites *Durud* silently. After that the Imam says *Allahu Akbar* for the third time audibly and the particular prayers for the deceased as given below, are recited silently. The Imam then says *Allahu Akbar* for the fourth time and, turning his face towards the right says *Assalamu 'Alaikum wa Rahmatullah*, and turning his face towards the left repeats the same to mark the end of the Prayer. The followers, too, say *Assalamu 'Alaikum wa Rahmatullah*, in a low tone and also turn their faces to the right and left.

There is no Ruku' or Prostration in the Funeral Prayer.

If the deceased is an adult, male or female, the following Prayer is recited:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيرِنَا وَ
كَبِيرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ أَنْثَانَا۔ اللَّهُمَّ مِنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَآخِئِهِ عَلَي
الْإِسْلَامِ وَ مِنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَي الْإِيْمَانِ۔ اللَّهُمَّ لَا
تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اور جو وفات پا چکے ہیں اور جو حاضر ہیں

اور جو موجود نہیں اور ہمارے چھوٹے بچوں کو اور بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو (بخش دے)

اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے۔ اس کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اور جس کو تو ہم میں سے وفات دے اس کو ایمان کے ساتھ وفات دے۔

اے اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنہ میں نہ ڈال۔

O Allah, forgive our living ones and our deceased ones and those of us who are present and those who are absent, and our young ones and our old ones and our males and our females. O Allah, those of us whom Thou grantest life, keep them firm on Islam, and those of us whom Thou causest to die, cause them to die in the faith. Deprive us not, O Allah, of the benefits relating to the deceased and subject us not to trial after him.

(Ibn-e-Majah page 107)

Prayer for a Deceased Male Child

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلْفًا وَفُرْطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَ

اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا

اے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے فائدہ کے لیے پہلے جانے والا اور ہمارے آرام کا ذریعہ بنا اور سامان خیر بنا اور موجب ثواب۔ یہ ہمارا سفارشی ہے اور اس کی سفارش کو قبول فرما۔

O Allah make him our forerunner, and make him, for us, a reward and a treasure, and make him for us a pleader and accept his pleading.

Prayer for a Deceased Female Child

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا سَلْفًا وَفُرْطًا، وَذُخْرًا وَاجْرًا وَشَافِعَةً وَ

مُشَفَّعَةً

اے اللہ تعالیٰ اس بچی کو ہمارے فائدہ کے لیے پہلے جانے والی اور ہمارے آرام کا ذریعہ بنا اور سامان خیر بنا اور موجب ثواب۔ یہ ہماری سفارشی ہے اور اس کی سفارش کو قبول فرما۔

O Allah make her our forerunner, and make her, for us, a reward and a treasure, and make her for us a pleader and accept her pleading.

Etiquette of Mourning a Loved One / Class #2

One must not give in to any superstitions. The condolences and conditions of bereavement should be maintained for **three days**. After that life should come back to normal. However, the period of bereavement as applicable to the widow of the deceased is **four months and ten days** (Ch. [2:235](#)). According to the Holy Quran, this is a period to stabilise her mentally and emotionally as women are under a great stress, more so than men in this situation, and they need protection from those who sometimes exploit their helplessness by sympathising at the time when such women are more vulnerable. During this period, **a widow should not leave her house except for unavoidable needs**. In case the woman is the only earning hand in the family and she has to keep up her job obligations, then she is allowed to go out for the purpose of performing her essential professional responsibilities, without socialising herself.

Women can attend the funeral (*Janaza*) prayer for the deceased, but it is better that they not attend the burial and wait to visit the cemetery afterwards, as instructed by the Holy Prophet^{sa}. Hazrat Umme Atiyyah^{ra} relates: “We were forbidden to follow funerals, but the prohibition was not harsh” (Muslim).

Source: [Salat: The Muslim Prayer Book](#) & *Etiquette of Life* pg 270

When we do visit a cemetery, we should try to do this in the morning as it is sunnah. The Promised Messiah^{as} has explained:

یہ ثواب کا کام ہے اور اس سے انسان کو اپنا مقام یاد آ جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں مسافر ہے۔
آج زمین پر ہے تو کل زمین کے نیچے ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان قبر پر
جاوے تو کہے **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ
اللَّهُ بِكُمْ لِلْمُحِقُونَ**۔“

(*Fiqh-ul-Masih* pg 178-179)

Translation: “This is a deed that earns blessings, and it reminds a person of their place; a person is just a traveler in this world. Today he stands on the ground and tomorrow he will be under it. It is stated in the Hadith that when a person visits a cemetery, they should say, *Peace be upon you O inhabitants of the graves, from among the believers and the Muslims; and surely if Allah wills, we are going to join you.*”

Please review the following customs and traditions that are considered un-Islamic (*bud rasumat*), as they are not in keeping with the sunnah of the Holy Prophet^{sa}.

- [Fatiha Khawani](#) (a gathering of mourners to pray for the deceased) is **not permitted**
- [Reciting the Holy Quran for the deceased](#) **does not** grant the deceased any reward
- **We should not place any flowers, plants, candles, lights or decorative stones/adornments or mementos on the grave or headstone.**
 - Urdu: https://www.askislam.org/mp3/MEI_19860622_06.mp3
 - English: <https://youtu.be/sAahGcpXDq0?t=110>

The Promised Messiah's^{as} Book

THE ADVENT OF THE PROMISED MESSIAH

At a time when injustice, immorality and sin ran rampant, the religion of Islam dawned to revive the bond between humanity and its Creator, and to establish peace in the world. It was at the hand of the Prophet of Islam that an unparalleled moral and spiritual transformation took place. But the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, prophesied that a time would come when the true teachings of Islam would be forgotten and at this time a divinely appointed reformer would appear to rejuvenate Islam. In fulfilment of this prophecy, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him, appeared in Qadian, India, and claimed to be the divinely appointed reformer awaited by all the world religions.

This book comprises an address delivered by the Promised Messiah^{as}, in which he speaks about the purpose of his advent and what it means to be an Ahmadi.

مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام: احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے؟

روحانی خزائن جلد 20

To read this book in English, please click here: <https://www.alislam.org/book/advent-promised-messiah/>

Advanced Reading (Optional)

Are you finished the assigned book above?

We invite you to learn more about the importance of Salat below

ملفوظات - جلد 1: "مقام صدیقیت" & "کمال صدیقیت کے حصول کا فلسفہ" صفحہ 331 تا 332

"The Station of the Truthful" & "The Philosophy in Attaining to the Excellence of the Truthful", *Malfuzat* Vol. 2, English Translation, [pg 79-80](#)

Khilafat Ala Minhajun Nabuwwah / History of Khilafat

Link to Book: <https://www.alislam.org/urdu/pdf/Khilafat-ala-Minhaj-un-Nubawt-2.pdf>

Class 1: **Vol 2 page 352 to 354**

Class 2: **Vol 2 page 355 to 357**

Advanced Reading (Optional)

*We encourage you to learn more about the importance of Khilafat.
Please click on the title to read the book.*

[Khilafat and Mujaddidiyyat](#)

by Hazrat Khalifatul Masih III^{rh}

Pearls of Wisdom / Guidance of Khilafat

Please watch the following two video clips to learn the guidance of Hazrat Khalifatul Masih V^{aa} on these important questions.

Should we mention the faults of potential marriage partners when proposals are being considered?

<https://youtu.be/2SVfpJbykBs> (length 3:12)

Are we allowed to meet privately with a guy before the proposal is accepted to get to know him?

<https://youtu.be/cd0uRk05lFE> (length 3:01)

Tabligh Activity / Class #1 / 5 min Overview by Secretary Tabligh

This month members are encouraged to discuss with their Tabligh contacts the following:

Discuss with contacts the negative impact of social media on the level of falsehood of people - are people more truthful nowadays? Why not?

Additional Activities (Optional)

1. Send Happy New Year greetings to contacts
 2. Please read the book [Social Media](#) by Sayyedna Hazrat Khalifatul Masih V^{aba}
-

What Should We do? / Class #2/ 15 min Tarbiyati Discussion

As Muslims, we know that lying is a sin and an act of *shirk*. In fact, [Qawl-e-Sadeed](#) (say the straightforward word) is a Quranic teaching. Unfortunately, we are living in a society now that is not very truthful. This is reflected through the increase of injustices and the spread of social media. People are increasingly telling lies.

How can I deal with a family member (spouse, parent, child, etc) or close friend who often does not speak truthfully and does not think it's a big deal to tell small lies?

In this scenario, it's important to separate out children (who are still learning) from the adults (who should know better).

The Tarbiyat of children involves teaching them from a young age to hate lying. This is one [practical advice of Hazrat Amman Jan^{ra}](#) who also taught her own children to do this. She would say out loud that her children state the truth, thus putting this thought in their minds that they must then be always truthful. In addition to this, we must openly discuss that it's not okay to tell small/white lies or to state something that is not truthful only to quickly state "just joking!", which is something some children do for fun. And we must also acknowledge the difficulties our children face at school or with their friends who may frequently lie. We should talk to our children about *why* people lie and what are the consequences of this. As the saying goes, "to hide one lie, a thousand lies are needed."

In adulthood, people can lie for many different reasons, such as in business dealings or during the Rishta nata process. When dealing with adults, it's important to remember that we are responsible only for ourselves. The first step should be to pray to Allah and seek guidance from Him, as any changes in a person are at His will. We should then try to speak to our family member/friend about the negative effect of their lying on the relationship and it's larger impact on the whole family/household. Trust in any relationship is very important and essentially, there cannot be a healthy and productive relationship without it. If one values a relationship, they strive to protect that trust. We can also remind them that lying is a form of *shirk* and share the hadith we have reviewed this month. And again, the emphasis for ourselves should be to pray for those who are weaker in their faith and struggling to overcome moral weaknesses.

Note to Teachers: In order to have a beneficial and engaging discussion, please review the teaching guide resources below and prepare your own notes.

Self-Study/Teaching Guide

Click on each reference below to learn more

1. “[Trustworthy Prophet’s Integrity and Honesty](#)”. Muhammad^{sa} The Perfect Man by Hafiz Muzaffar Ahmad.
2. “[Truthfulness](#)”. The Philosophy of the Teachings of Islam by the Promised Messiah^{as}
3. Friday Sermons of Sayyedna Hazrat Khalifatul Masih V^{aba}:
 - a. Significance of Truthfulness <https://khut.ba/19dec2003>
 - b. Practice truth in all aspects of your life <https://khut.ba/9sep2011>
 - c. Truth and Falsehood <https://khut.ba/5feb2016>
 - d. Truth, Lies and Arrogance <https://khut.ba/16jun2017>
4. [Zikre-Habib – Truthfulness in All Matters](#); English speech at Jalsa Salana USA 2011 by Dr. Mirza Maghfoor Ahmad, Amir Jama’at USA.
5. [Al Hilal](#) – A Magazine for Children; special issue on the beauty and importance of truthfulness